

366883- کیا رمضان میں دن کے وقت الرجبی کی مقدار جاننے کے لیے جلد کے نیچے نمکین محلول کا ٹیکا لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟

سوال

میں فیکٹی آف زسنگ کے پہلے سال کا طالب علم ہوں، اور آج ہم نے سیکھا کہ الرجبی کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے، تو پورے گروپ نے ایک دوسرے کو نمکین محلول کا انجیکشن لگایا تاکہ یہ سیکھ سکیں کہ یہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ واضح رہے کہ اس کے لیے استعمال ہونے والی سرینج انٹراڈرمل (Intradermal) نوعیت کی ہوتی ہے۔

جواب کا خلاصہ

جلد کے نیچے نمکین محلول کا انجیکشن لگا کر الرجبی ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے غذا نیت حاصل نہیں ہوتی۔

پسندیدہ جواب

علاج کے لیے لگائے جانے والے ٹیکے روزے کے لیے ناقض نہیں ہوتے، الاکہ یہ غذائی ضروریات کو پورا کریں تو ناقض روزہ ہیں مثلاً: وٹامن اور دیگر غذائی محلول کے ٹیکے جو خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔

جیسے کہ اسلامی فقہ اکادمی کی قرارداد نمبر: 93(10/1) جو کہ ادویات میں سے روزہ توڑنے والی اشیاء کے متعلق ہے، میں ہے کہ: "درج ذیل چیزوں کو ناقض روزہ نہیں سمجھا جائے گا:۔۔۔ جلد، ہٹھوں یا رگوں میں لگائے جانے والے دوا پر مشتمل ٹیکے۔ جبکہ غذائی محلول اور ٹیکے روزہ توڑ دیتے ہیں۔" ختم شد

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:
ہٹھوں، یا رگ یا کولے پر ٹیکا لگوانے کا کیا حکم ہے؟

توانوں نے جواب دیا:

"رگ، ہٹھے یا کولے پر انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے روزے دار کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا؛ کیونکہ یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں ہے، نہ ہی روزہ توڑنے والی اشیاء کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی پینا ہے، نہ ہی یہ کھانے پینے کے حکم میں آتا ہے۔ ہم پہلے بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں ایسے ٹیکے روزے پر اثر انداز ہوتے ہیں جو کھانے پینے کی ضرورت پوری کر دیں۔" ختم شد

فتاویٰ الصیام، صفحہ: (220)

اس بنا پر الرجبی چیک کرنے کے لیے جلد کے نیچے نمکین محلول کا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ یہ غذائی ضرورت پوری نہیں کرتا۔

واللہ اعلم